

ایویڈینس فار ایکوئلٹی نشینل سروے (EVENS) کی شرائط و ضوابط

1. عمومی قبولیت

ایویڈینس فار ایکوئلٹی نشینل سروے (EVENS) سروے کو جاری رکھ کر آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ تمام متعلقہ شرائط و ضوابط کے علاوہ MORI اور مارکیٹ اوپینٹن ریسرچ انٹرنیشنل لمیٹڈ ("ایپسوس موری" یا "ہم") اور یونیورسٹی آف مانچسٹر کی جانب سے جاری کردہ ہر قسم کے رازداری کے نوٹسز کی بھی لازمی طور پر پابندی کریں گے۔ ان شرائط و ضوابط میں ترمیم و تبدیلی کا حق ہمارے پاس محفوظ ہے۔

2. اس سروے میں شرکت کرنے پر 10£ (واؤچر) اس کے بعد جس کو 'ترغیب' کہا جائے گا) حاصل کرنے کی اہلیت و شرائط برائے صارف:

- اس ترغیب کے حصول کے لیے آپ کو EVENS مرکزی سروے کو گلی طور پر مکمل کرنا ہو گا (جس پر تقریباً 30 منٹ کا وقت لگے گا)۔ صرف رجسٹریشن سروے (جس سے صرف اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ آیا آپ مرکزی سروے کے لیے اہل ہیں یا نہیں اور اس پر تقریباً 5 منٹ لگیں گے) مکمل کرنے پر آپ یہ ترغیب حاصل کرنے کے لیے اہل نہیں ہوں گے۔
- یہ 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے یوکے میں رہائش پذیر افراد تک محدود ہے۔
- ایپسوس موری کے پاس کوئی وجہ بتائے بغیر سروے میں شرکت کرنے پر دیے جانے والی ترغیبات سے انکار کرنے کا حق محفوظ ہے۔
- سروے میں شرکت کرنا مفت اور آپ کی ذات تک محدود ہے۔ آپ ترغیب کو دیگر کسی بھی شخص کو منتقل نہیں کر سکتے۔
- ان شرائط و ضوابط کے تحت آپ کوئی بھی ترغیب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوں گے، اگر:
 - آپ نے یہ سروے پہلے ہی مکمل کر لیا ہو۔ ایک سے زیادہ مرتبہ کیے جانے والے سروے کو خارج کر دیا جائے گا اور شرکت کنندگان کو کوئی ترغیب نہیں ملے گی۔
 - اگر آپ دھوکے پر مبنی یا غلط ڈیٹا فراہم کرتے ہیں، تو آپ کوئی بھی ترغیب حاصل کرنے کے لیے اہل نہیں ہوں گے۔ اس بات کا تعین کرنا ایپسوس موری کی گلی صوابدید پر ہو گا۔
- آپ EVENS سروے کی ہیلپ کے صفحہ: www.evenssurveyinfo.ipsos-mori.com پر جا کر سروے کی رازداری کی پالیسیاں ملاحظہ کر سکتے ہیں اور اس تحقیق کے حوالے سے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور یہ کہ آپ کے فراہم کردہ ڈیٹا کو کیسے استعمال کیا جائے گا۔

3. ذمہ داری

- جہاں تک قانون اجازت دیتا ہو، ایپسوس موری کسی قسم کے نقصان، لاگت یا اخراجات (بشمول بالواسطہ، نتیجتاً یا حادثاتی نقصانات، اخراجات یا نقصانات) کے لیے ہرگز ذمہ دار نہیں ہوگی، جو ان شرائط و ضوابط کے تحت آپ کی شرکت یا سروے مکمل کرنے کے دوران لاگو ہو سکتے ہوں۔

4. ترغیبات

اس سروے کے لیے ترغیب ان شرائط و ضوابط اور ترغیبات کے بارے میں مارکیٹ ریسرچ سوسائٹی (MRS) کی جانب سے وضع کردہ ضوابط کے تحت فراہم کیے جائے ہیں، جن کے بارے میں مزید تفصیلات یہاں سے حاصل کی جا سکتی ہیں:
<https://www.mrs.org.uk/pdf/Regulations%20for%20Incentives%20and%20Prize%20Draws%20July%202021.pdf>

5. دیگر ویب سائٹس کے بارے میں لنکس

سروے کی ویب سائٹ پر دیگر ویب سائٹس یا آن لائن وسائل کے بارے میں لنکس بھی فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ چونکہ Ipsos ایسی سائٹس اور وسائل پر کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں رکھتی، لہذا Ipsos ان سائٹس اور وسائل کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرے گی۔ Ipsos اس طرح کی بیرونی سائٹس اور وسائل کی دستیابی کی ضمانت نہیں دے سکتی اور نہ

پی افسوس موری ایسی سائیٹس اور وسائل پر دستیاب مواد، اشتہار بازی، مصنوعات، کوکیز، ویب سائیٹ ٹیگز یا دیگر کسی قسم کے مواد کی توثیق کرتی ہے۔

آپ اس بات کی توثیق اور اتفاق کرتے ہیں کہ ان شرائط و ضوابط کی شرط نمبر 3 کے تحت افسوس موری، ایسی سائیٹس یا وسائل پر موجود کسی قسم کے مواد، اشیاء یا ان پر دستیاب براہ راست یا بالواسطہ سروسز کے استعمال یا ان پر انحصار کرنے کی وجہ سے ہونے والے کسی قسم کے نقصان یا ضیاع کی ہرگز ذمہ دار نہ ہوگی۔

6. قابل اطلاق قانون اور دائرہ اختیار

ان شرائط و ضوابط پر انگلینڈ اور ویلز کے قوانین کا اطلاق ہوگا اور یہ انگلینڈ اور ویلز کی عدالتوں کے خصوصی دائرہ اختیار میں ہوں گی۔

7. افسوس موری رابطہ

آپ افسوس موری کی ٹیم کے ساتھ بذریعہ evenssurvey@Ipsos-MORI.com رابطہ کر سکتے ہیں۔
متبادل طور پر، آپ ان کے ساتھ درج ذیل پتہ پر تحریری رابطہ کر سکتے ہیں:

EVENS Survey (20-089809-01)
Ipsos MORI
3 Thomas More Square
London E1W 1YW